



5278CH07

سماجی اثر اور گروہی یا اجتماعی عمل

7

- اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:
- گروپوں کی ہیئت اور قسموں کو سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ یہ کس طرح تشکیل پاتے ہیں،
 - فرد کے برتاؤ پر گروپ کے اثر کی جانچ کر سکیں گے،
 - ماہمی تعاون اور مسابقت مابعد کے مارے میں بیان کر سکیں گے،
 - گروپوں کے مابین کشاکش کی ہیئت کو سمجھ سکیں گے اور کشاکش کے حل کی حکمت عملی یا طریقوں کو جانچ سکیں گے۔

گروپ کی فطرت اور تشکیل گروہ کیا ہے؟

گروہی فکر (باکس 7.1)

گروپ کی اقسام

اقل گروہی مثالی خاکہ تجربات (باکس 7.2)

انسانی برتاؤ پر ان گروپوں کے اثرات

سماجی آوارگی

گروہی تنظیم

تقلید، تعمیل اور فرماں برداری

گمان حرکت اثر (باکس 7.3)

گروہی دباؤ اور تقلید: ایش تجربات (باکس 7.4)

ماہمی تعاون اور مسابقت

شیرف کے کیپ موسم گرما کے تجربات (باکس 7.5)

سماجی شناخت

بین گروہی تصادم: فطرت اور اسباب

کشاکش رفع کرنے کی حکمت عملی

مشمولات

کلیدی اصطلاحات

خلاصہ
اعادہ سوالات
پروجیکٹ کی تجاویز
ویب لنکس
تعلیمی اشارات

اپنی روزمرہ زندگی اور اپنے مختلف سماجی روابط یا تغافل پر غور کیجیے۔ صبح اسکول جانے سے پہلے آپ کنبہ کے ارکان کے ساتھ باہمی تعامل کرتے ہیں، اسکول میں اپنے اساتذہ اور ہم جماعت دوستوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اور اسکول کے بعد آپ اپنے دوستوں سے فون پر بات کرتے ہیں۔ ان سے ملتے جلتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان میں سے ہر مثال میں آپ ایک گروپ کا حصہ ہیں جو صرف آپ کو ضرورت کے مطابق حمایت اور تسکین ہی مہیا نہیں کرتا بلکہ ایک فرد کی حیثیت سے ہونے والی آپ کی نشوونما میں بھی مدد گار ہوتے ہیں۔ کیا آپ کبھی کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آپ کے خاندان کے افراد، اسکول کے دوست اور احباب موجود نہ ہوں؟ اگر ہاں تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ کیا آپ کو ایسا لگا کہ آپ کی زندگی سے کچھ خاص چیز غائب ہے۔ ہماری زندگی اس گروپ کی فطرت سے متاثر ہوتی ہے جس کے ہم ممبر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان گروپ کا حصہ بنیں جو ہم پر مثبت اثر ڈالیں اور ایک ذمہ دار شہری بننے میں ہماری مدد کریں۔ اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گروپ کیا ہے؟ اور وہ کس طرح ہمارے مزاج و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف ہم ہی دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم خود فرد اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ سماج یا دوسرے افراد میں کچھ تبدیلیاں لا سکیں۔ باہمی تعاون اور مقابلے کے فوائد پر بھی ہم بحث کریں گے نیز یہ کہ یہ ہماری ذاتی اور سماجی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے، ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح شخصیت کی شناخت ہوتی ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی طرح یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح گروپوں میں آپسی تصادم پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک ہم آہنگ اور اتصالی سماج کی تشکیل کی جانب اپنا اشتراک کرنے کے اہل ہو سکیں۔

گروپ کی فطرت اور تشکیل

گروپ کیا ہے؟

طرح آپ کا خاندان جماعت اور کھیل گروپ ایسی مثالیں ہیں جو قوتی طور پر یکجا ہونے والے گروہوں سے مختلف ہیں۔ گروہ دو یا زیادہ افراد کا منظم اجتماع ہے جو آپسی ربط رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کے مشترکہ مقاصد ہوتے۔ باقاعدہ طے شدہ کردار ہوتے اور آپس میں ربط اور انحصار کے لیے باضابطہ قوانین ہوتے ہیں جو ممبران کے برتاؤ کو طے کرتے ہیں۔

- گروپ کی مندرجہ ذیل اہم خصوصیات ہوتی ہیں
- دو یا دو سے زیادہ افراد کی ایک سماجی اکائی جن میں گروپ سے تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ایک گروپ کو دوسرے سے الگ کرتی ہے اور انفرادیت بخشتی ہے۔
- افراد کا ایک مجموعہ جن کے مشترکہ محرکات اور مقاصد ہوتے ہیں
- گروپ ایک متعین مقصد کے تئیں عمل کرتا ہے۔ وہ متحد ہو کر مختلف مصیبت آمیز مسائل پر کام کرتا ہے۔
- افراد کا ایک مجموعہ جن میں انحصار باہمی ہو یعنی جن میں ایک کی کارکردگی

پچھلے تعارفی موضوع میں ہم نے زندگی میں گروہ کی اہمیت پر غور کیا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گروپ یا گروہ (مثلاً خاندان، کلاس، کھیل کے ساتھی، دوست وغیرہ) افراد کے اجتماع سے کس طرح مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب لوگ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے یا آپ کے اسکول کا فنکشن دیکھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں لیکن یہ باہمی طور پر منحصر نہیں ہوتے۔ ان کے کوئی طے شدہ کردار، حیثیت اور ایک دوسرے سے توقعات بھی نہیں ہوتیں جو وہ ایک دوسرے سے واسطہ رکھتے ہوں۔ لیکن جب بات ہمارے خاندان، جماعت یا اس گروہ کی ہو جس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپسی ربط اور انحصار موجود ہوتا ہے۔ گروہ کے ہر ممبر کا ایک کردار، مرتبہ اور ذمہ داری ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے توقعات بھی وابستہ ہوتی ہے۔ اسی

اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے سڑک پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور لوگ یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھیڑ ہے۔ کیونکہ اس کی نہ تو کوئی ساخت ہوتی ہے اور بھیڑ میں نہ احساس باہمی تعلق ہوتا ہے نہ ہی کوئی باضابطہ اخلاقیات۔ بھیڑ میں لوگوں کا برتاؤ غیر معقول ہوتا ہے اور ان میں باہمی انحصار نہیں ہوتا ہے۔

Team ٹیم ایک مخصوص قسم کے گروپ کو کہتے ہیں۔ ان کے ممبر اکثر نہ صرف تکمالاتی مہارت رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک مشترکہ منزل مقصود کے با مقصد حصول کے لیے بیان وابستگی رکھتے ہیں۔ ٹیم کے سبھی ممبر ہر عمل کے لیے باہمی طور پر جواب دہ ہوتے ہیں۔ ٹیم میں افراد کی باہمی مدد اور متحدہ کوشش سے اثباتی اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ٹیم اور گروپ میں نمایاں فرق مندرجہ ذیل ہیں:


- گروپ میں افراد کی باہمی کارگزاری پر ہی گروپ کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے لیکن ٹیم کی کامیابی میں فرد اور ٹیم کے جذبہ اتحاد دونوں کا اہم رول ہوتا ہے۔

- گروپ میں لیڈر کسی کام کی کامیابی یا ناکامی کے لیے جوابدہ ہوتا ہے۔ جب کہ ٹیم میں ایک لیڈر ہوتا ہے مگر ہر ممبر اپنی کارکردگی کے لیے خود ذمہ دار ہوتا ہے۔

دوسرے کو اثر انداز کرتی ہو۔ مثال کے طور پر کرکٹ میچ میں اگر ایک فیلڈر کیچ چھوڑ دیتا ہے تو پوری ٹیم متاثر ہوتی ہے۔

- فرد جو اپنی ضرورت ایک انجمن کے ذریعہ پوری کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپنے گروپ کے افراد کو اثر انداز کرتا ہے۔
- افراد کا ایک اجتماع جو ایک دوسرے پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
- افراد کا ایک اجتماع جن میں باہمی تعلق کردار ایک طے شدہ منظم ضابطے اور معیارات کے تحت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی آپس میں ملیں تو طے شدہ معیارات کے حساب سے کارکردگی اور فرائض انجام دیں اور گروپ کے ممبران گروپ کے معیارات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ معیارات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گروپ سے کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے ہیں اور گروپ کے ممبران سے برتاؤ کی صراحت ہوتی ہے۔

گروپ اور لوگوں کے اچانک اکٹھا ہوئے جھنڈ میں نمایاں فرق ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑ بھی لوگوں کا اجتماع ہے۔ کبھی کبھی اچانک کسی وجہ سے کچھ لوگ



شکل 7.1 ان دو تصویروں پر ایک نظر

تصویر A میں ایک فٹ بال ٹیم دکھائی گئی ہے، ایک گروپ جس میں ممبران ایک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں ان کے اپنے کردار اور مقاصد ہوتے ہیں۔ تصویر B میں حاضرین فٹ بال میچ دیکھتے ہوئے جو محض لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو بعض امر اتفاق (فٹ بال میں ان کی دلچسپی ہو سکتی ہے) کے بنا پر بیک وقت ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔

حقیقت کا احساس ملتا ہے۔ گروپ کا وقار اور اس سے ہماری وابستگی ہماری ہی نظروں میں باعث افتخار ہوتی ہے۔

نفسیاتی اور سماجی ضروریات کی آسودگی: گروپ کے افراد کا باہمی تعلق، توجہ حاصل کرنا اور توجہ دینا، پیار، قوت اور احساس تعلق اس کی نفسیاتی اور سماجی ضرورت کی آسودگی کا باعث ہوتی ہے۔

مختصیل مقصود: گروپ میں ان مقاصد کی تکمیل ممکن ہے جو فرد کے لیے انفرادی طور پر ممکن نہیں ہوتی۔ اکثریت میں طاقت ہے۔

علم اور معلومات بہم پہنچانا: گروپ کے ذریعے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ ہمارے خیالات میں وسعت کا باعث ہوتی ہیں۔ تنہا فرد کے طور پر ہمیں اتنی معلومات نہیں ہوتیں۔ گروپ ہمارے علم کو وسیع کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔

گروپ کی تشکیل

اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ گروپ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ گروپ بننے کی بنیادی شرط لوگوں کے درمیان رابطہ اور عام تبادلہ خیال و باہمی عمل ہے۔ تبادلہ خیال کو بڑھاوا دینے والی کچھ شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

• **قرابت:** ذرا اپنے گروپ کے احباب کا تصور کیجیے۔ کیا آپ ان کے دوست ہوتے اگر آپ اسی کالونی میں نہ رہ رہے ہوتے یا ایک ہی اسکول میں نہ پڑھ رہے ہوتے یا اسی ایک کھیل کے میدان میں نہ کھیل رہے ہوتے۔ شاید آپ کا جواب 'نہیں' ہوگا۔ یعنی بار بار ایک شخص سے ملنا اور بات چیت کرنا قرابت کو بڑھاوا دیتا ہے اور ہمیں ان کے اور ان کی دلچسپیوں اور ان کے رویوں کے بارے میں جاننے کا اتفاق حاصل ہوتا ہے مشترکہ مفادات، رویے اور پس منظر، آپ کے گروپ ممبران کے لیے اپنی پسند کے اہم ترین عناصر ہیں۔

• **یکسانیت:** بار بار کسی سے ملاقات یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنی یکسانیت کی پہچان اس شخص سے کر سکیں اور گروپوں کی تشکیل کی راہ

سامعین سے مراد افراد کے اس ہجوم سے ہے جو کسی خاص مقصد جیسے کرکٹ میچ دیکھنے یا کوئی فلم دیکھنے وغیرہ کے لیے اکٹھا ہو گئے ہوں۔ سامعین زیادہ تر تو بہت ہی خاموشی کے ساتھ دوسروں کی کارکردگی کو سراہتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی شور اور ہنگامہ کے شکار ہو کر بھیڑ بن جاتے ہیں۔ ان کے دھیان کا ایک خاص مرکز ہوتا ہے اور ان کی تمام حرکات و سکنات ایک مخصوص سمت میں ہوتی ہیں۔ بھیڑ کا رویہ ایک مخصوص یکساں فکر کے باوجود اضطراری ہوتا ہے۔

لوگ گروپ میں شامل ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟

آپ سب اپنے خاندان کے فرد ہیں اور اس کلاس گروپ کے ممبر ہیں جس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں۔ اسی طرح اکثر لوگ بیک وقت الگ الگ کئی گروپ کے ممبر ہوتے ہیں۔ گروپ آپ کی منفرد ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اس طرح ہم بیک وقت کئی گروپ کے ممبر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس وجہ سے ہم کچھ خاص قسم کے دباؤ کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہر گروپ کے ہم سے کچھ مسابقتی تقاضے اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر تو ہم ان سب کا ارتکاب کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لوگ مختلف گروہ کے ممبر بننے ہیں کیوں کہ گروپ ہماری مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

• لوگوں کے گروپ میں شمولیت کی کچھ مندرجہ ذیل وجوہات حسب ذیل ہیں۔

• **تحفظ:** جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اکثر اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ گروپ اس غیر محفوظ ہونے کے احساس کا ازالہ کرتا ہے اور تحفظ دیتا ہے۔ نتیجتاً لوگ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کے پرخطر حالات میں تحفظ کا احساس مضبوط ہوتا ہے۔

• **حیثیت:** جب ہم کسی اہم گروپ کے ممبر ہوتے ہیں تو گروپ کے ساتھ اپنی پہچان بننے اور قوت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مان لیجیے آپ کے اسکول نے کوئی ٹرافی جیتی تو آپ کو بھی فخر ہوتا ہے کہ آپ اس اسکول کے ممبر ہیں۔

• **خود پسندی:** گروپ سے ہمیں خود اعتمادی اور اثباتی سماجی انفرادی

ہموار کر سکیں۔

گروپ فوراً بن جاتے ہیں۔ آپ جس وقت ایک دوسرے کے تعلق میں آئیں تو فوراً ہی اس کے ممبر نہیں بن جاتے۔ گروپ کی تشکیل کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جیسے تشکیل۔ کشاکش۔ استحکام۔ کارکردگی اور برخواستگی۔ ٹکمین کا کہنا ہے کہ گروپ بننے کے درمیان پانچ مراحل ہیں۔ صورت یا ہیئت۔ کشاکش۔ معیاریت۔ کارکردگی۔ برخواستگی۔

• پہلے جب گروپ ممبر ملتے ہیں تو گروپ، اس کی کارکردگی اور منزل مقصود کی بابت بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا وہ گروپ میں فٹ ہوں گے۔ ان کو جوش کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے یہ مرحلہ بصورت یا تشکیل ہے۔

• اس مرحلہ کے بعد درون گروپ کشاکش بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اسے پر آشوب مرحلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں گروپ میں اکثر بحث رہتی ہے کہ گروپ کا مقصد کیسے حاصل کیا جائے۔ کون گروپ پر تسلط رکھے گا اور گروپ کے ذرائع کیا ہوں گے ذمہ داریاں فرداً فرداً کیا ہوں گی۔ اسکے بعد ایک طرح سے سب کی حیثیت طے ہو جاتی ہے جس کے ذریعے منزل مقصود حاصل کرنے کا خاکہ ذہنوں میں صاف ہو جاتا ہے۔

• پر آشوب مرحلے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جسے نارمل حالت کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آتے آتے گروپ کی کارکردگی کا معیار طے ہو جاتا ہے اور گروپ کی اثباتی شناخت قائم ہو جاتی ہے۔

• چوتھا مرحلہ ہے مرحلہ کارکردگی۔ اب گروپ کی کل کارکردگی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے اور ہر فرد گروپ کے طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتا ہے۔ کچھ گروپوں کے لیے شاید یہ ترقی کا آخری مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔

• تاہم کچھ گروپوں کے لیے مثلاً اسکول کے تقریب کے لیے ایک منظم کمیٹی کے معاملے میں ایک اور مرحلہ ہو سکتا ہے جسے موقوف کرنے کا

ہم اپنے جیسے لوگوں کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے اس کے بارے میں مختلف بیانات پیش کیے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ افراد وابستگی کو ترجیح دیتے ہیں اور ان رشتوں کو پسند کرتے ہیں جو ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ جب دو لوگ ایک جیسے ہوں تو موافقت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں۔ مثال کے لیے۔ اگر آپ کی کلاس میں آپ کی طرح کوئی دوسرا لڑکا فٹ بال کھیلنا پسند کرتا ہے تو آپ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح قوی امید ہوتی ہے کہ آپ شاید دوست بن جائیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہماری فکر اور اقدار کو تقویت ملتی ہے اور ہم اس شخص کو پسند کرنے لگتے ہیں جس نے ہمارے خیالات کو تقویت دی، مان لیجیے آپ کے خیال میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تشدد دکھایا جاتا ہے، آپ کسی ایسے فرد سے ملتے ہیں جس کے اسی طرح کے خیالات ہوں۔ اس سے آپ کی رائے کو تقویت ملتی ہے اور آپ اس فرد کی رائے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کی رائے کو تقویت دینے کا ذریعہ بنا تھا۔

• مشترک محرکات اور مقاصد: لوگوں کے محرک اور مقاصد اگر ایک ہوں تو ان کے گروپ بن جاتے ہیں اور مقصد کے حصول کے لیے گا مزن ہو جاتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کو جھگی جھونپڑی میں ان پڑھ بچوں کو پڑھانا پسند ہے تو ظاہر ہے آپ یہ کام اکیلے کرنے سے قاصر ہوں گے اور اگر کچھ ہم خیال آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ کام آسان ہو جائے گا اور آپ سب سے مل کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح گروپ کے ذریعہ آپ ایسے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب کہ اس کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔

گروپ کی تشکیل کے مراحل زندگی کے دیگر مراحل کی طرح ہی گروپ بھی نشوونما پاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ

مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اسکول کی تقریب ختم ہونے پر یہ گروپ درخواست ہوتا ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ تشکیل گروپ کے تمام مراحل یکے بعد دیگرے ضروری طور پر نہیں برتے جاتے۔ کبھی کبھی دو یا تین مرحلے ایک ساتھ ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ اگلے مراحل طے کر کے پیچھے پلٹتے ہیں اور کبھی کچھ غیر ضروری مراحل کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔

تشکیل گروپ کے عمل کے دوران ایک خاکہ طے ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گروہی ساخت کو اسی وقت فروغ حاصل ہوتا ہے جب ممبران تغافل کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انجام دیے جانے والے کام کی تقسیم، ممبران کا وقار یا متعلقہ حیثیت میں باقاعدگی دکھائی دینے لگتی ہے۔

گروپ کا خاکہ تشکیل دینے میں چار عناصر ضروری ہیں:

— فرد کا کردار: اولاد سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو عزت دے اور اپنی تعلیمی ذمہ داریاں پوری کرے وغیرہ وغیرہ۔

گروپ کی تشکیل کے مراحل کی شناخت

سرگرمی
7.1

اپنی جماعت کے کن ہی دس ممبروں کو چننے اور ایک اوپن ہائوس کا منصوبہ بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائیں۔ ان کو پوری خود مختاری دیجیے۔ دوسری کلاس کے بچے غور سے دیکھتے رہیں کہ وہ روز مرہ کے کام کیسے کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ گروپ کی تشکیل کے سبھی مراحل طے کیے گئے، کون سے غیر ضروری مرحلے چھوڑ دیے گئے؟ ان تمام باتوں پر جماعت میں تبصرہ کیجئے۔

گروہی فکر

باکس
7.1

زیادہ تر ٹیم ورک (اتحادی عمل) گروپ کی کارکردگی کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تاہم ارونگ جنس کا کہنا ہے کہ پیوستگی یا اتصال با اثر قیادت میں نکل ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ تاہ کن فیصلہ سازی کی شکل میں برآمد ہو سکتا ہے۔ جنسن نے ”اجتماعی فکر“ کے طور پر جانا گیا عمل دریافت کیا جس میں گروپ اپنے معاملات میں اتفاق رائے کی گنجائش رکھتا ہے یہ درحقیقت حقائق پر مبنی راہ عمل کے تین تنقیح کی ترغیب کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ فیصلہ سازوں کے لیے غیر منطقی اور غیر ناقدانہ فیصلہ سازی کے رجحان کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ اجتماعی فکر کی خصوصیت اتفاق رائے یا گروپ میں متفقہ معاہدہ کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ممبر یہ یقین کرتا ہے کہ سبھی ممبران ایک مخصوص فیصلے یا پالیسی پر متفق ہوں گے۔ کوئی بھی اختلاف رائے کا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ ہر فرد یہ مانتا ہے کہ گروپ سے وابستگی بے اثر ہو جائے گی اور وہ غیر مقبول ہو جائے گا۔ معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے گروپ میں واقعات پر قدرت رکھنے کے تئیں خود کو قوت کے بارے میں مبالغہ آمیز احساس رہتا ہے۔ حقیقی دنیا (جس میں اس کے منصوبے کے تئیں ضرر کا اندیشہ ظاہر ہوتا ہے) کو نظر انداز کرنے یا اس کے مشاہدے کے محرک کو کم ترین کرنے کا میلان ہوتا ہے گروپ کی اندرونی ہم آہنگی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے یہ حقیقت سے دور ہونا چلا جاتا ہے سماجی طور پر متجانس اور وابستہ گروپ دیگر گروپوں سے الگ تھلک ہوتے ہیں ان میں جو اجتماعی فکر پیدا ہوتی ہے، اس میں متبادلات پر غور کرنے کی روایت نہیں ہوتی۔ ان میں فیصلہ زیادہ نقصان دہ یا ناکامی کا موجب ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر متعدد گروہی فیصلوں کی مثالیں اجتماعی فکر کے مظہر کے طور پر بیان کی جاسکتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ فیصلہ مزاح بن کر رہ جاتا ہے۔ جیسے سن 1964-67 چلنے والی بیت نام جنگ اس کی ایک مثال ہے جس میں صدر لنڈن جانسن اور ان کے صلاح کاروں نے غلط انداز سے سوچا اور جنگ کو لمبے عرصے تک کھینچنے کی وجہ سے 56 ہزار امریکی اور لاکھوں بیت نامیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ زبردست جھٹ خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ اجتماعی فکر کے جوابی عمل یاروک تھام کے بعض طریقے ہیں: (i) تنقیدی سوچ حتیٰ کہ گروپ ممبران کے درمیان عدم اتفاق کی حوصلہ افزائی اور صلہ دینا (ii) موجودہ متبادل راہ کو پیش کرنے کے تئیں گروپوں کی حوصلہ افزائی (iii) بیرونی ماہرین کو مدعو کرنا اور گروہی فیصلوں کی قدر شناسی کرنا (iv) دیگر معتبر لوگوں سے جوابی عمل تلاش کرنے کے لیے ممبروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔

رشتے غیر ذاتی اور بلا واسطہ قائم ہوتے ہیں اور ان میں اتنی گہرائی سے نزدیکیاں نہیں ہوتیں اور کسی بھی وقت فرد کسی گروپ کو چھوڑ کر دوسرے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے۔

حیثیت

اس سے مراد نسبی سماجی حیثیت ہے جو دوسروں کے ذریعہ گروپ کے ممبروں کو دی جاتی ہے۔ یہ نسبی رتبہ یا حیثیت یا تو مفوضہ (کسی کی عمر یا رتبے میں برتری کے سبب دی جاسکتی ہے) یا اکتسابی (فرد اپنی مہارت یا سخت محنت کے سبب حاصل کرتا ہے) ہو سکتی ہے ہم گروپ کے ممبر ہونے کے سبب اس گروپ سے متعلق حیثیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ لہذا ہم سبھی ان گروپوں کے ممبر ہونے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں جو حیثیت میں اونچا ہو اور دوسروں کے ذریعہ پسند ہو۔ ایک گروپ کے اندر مختلف ممبران کی مختلف حیثیت یا وقار ہوتا ہے۔ مثال کے لیے ایک کرکٹ ٹیم کے کپٹن کی حیثیت دوسرے ممبروں کے مقابلے زیادہ اونچی ہوتی ہے حالانکہ ٹیم کی کامیابی کے لیے ہر ممبر مساوی طور پر اہم ہوتا ہے۔

پیوستگی سے مراد گروپ کے ممبروں کے درمیان رفاقت، وابستگی یا باہمی کشش ہے۔ جیسے جیسے گروپ میں پیوستگی بڑھتی جاتی ہے، گروپ کے ممبران ایک سماجی اکائی کے طور پر رہنا کم پسند کرتے ہیں۔ انتہائی پیوستہ گروہ کے ممبران لوگوں کے نسبت جو کم پیوستہ گروہوں سے متعلق ہوتے ہیں گروپ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پیوستگی کا جذبہ اتحاد عمل یا ”ہم کا احساس“ یا گروپ سے متعلق ہونے کے احساس کی دلالت کرتی ہے۔ ایک پیوستہ گروپ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یا جو نہایت پیوستہ گروپ ہوتے ہیں ان کی ممبر شپ حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انتہائی پیوستگی کبھی کبھی گروپ کے مفاد میں نہیں ہوتی ماہرین نفسیات نے اجتماعی فکر (Group Think) کے مظہر کی شناخت کی ہے (باکس 7.1 دیکھیں) جو انتہائی پیوستگی کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔

• معیار تسلیم شدہ برتاؤ اور عقائد کے متوقع معیارات جو گروپ کا ہر فرد مانتا ہے۔ یہ گروپ کے ان کہے اصول و ضوابط سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں بہت سے معیارات ایسے ہیں جو فیملی ممبران کے برتاؤ کی رہنمائی کرتے ہیں اور جو دنیا کو مشترکہ نظر سے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

گروپ کی اقسام

گروپ کئی معنوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ گروپ بڑے ہوتے ہیں (جیسے ایک ملک) اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں (جیسے خاندان) کچھ گروپ کچھ دنوں کے لیے وجود میں آتے ہیں (جیسے کمیٹی) کچھ گروپ عرصے تک قائم رہتے ہیں (جیسے مذہبی گروپ) کچھ گروپ کی تنظیم بہت پختہ ہوتی ہے (جیسے فوج، پولیس وغیرہ) کچھ بغیر کسی رسمی تنظیم کے ہوتے ہیں (جیسے کرکٹ میچ دیکھنے لیے اکٹھا افراد) ہم بیک وقت بہت سے گروپ کے ممبر ہوتے ہیں۔ کچھ مخصوص قسم کے گروپ کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

— بنیادی اور ثانوی گروپ

— رسمی اور غیر رسمی گروپ

— اندرونی گروپ اور بیرونی گروپ

بنیادی اور ثانوی گروپ

بنیادی اور ثانوی گروپ کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بنیادی گروپ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں اور فرد خود کو اس میں موجود پاتا ہے جب کہ ثانوی گروپ میں فرد خود اپنی پسند سے شامل ہوتا ہے۔ اس طرح خاندان، ذات، مذہب بنیادی گروپ ہیں جب کہ کسی سیاسی گروپ میں شمولیت ثانوی گروپ کی مثال ہے ایک بنیادی گروپ میں باہمی میل ملاپ کے رشتے بہت نزدیکی ہوتے ہیں۔ ان میں جذباتی رابطے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ بنیادی گروپ انفرادی عمل کا مرکز ہوتا ہے۔ اقدار اور نصب العین کے فروغ میں اس کا خاص کردار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ثانوی گروپ میں

رسمی اور غیر رسمی گروپ

ہے۔ اس فرق کو باکس 7.2 میں دیے گئے تائیل کے تجربات کے ذریعہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اگرچہ اس طرح کی زمرہ بندی کرنا عام بات ہے لیکن یہ اعتراف کیا جانا چاہیے کہ یہ زمرے حقیقی نہیں ہیں اور ہم ان کی تخلیق کرتے ہیں۔ کچھ تہذیبوں میں کثرت ہوتی ہے جیسا کہ ہندوستان کے معاملے میں ہے۔ ہمارے یہاں ایک منفرد مخلوط ثقافت ہے جو نہ صرف ہماری زندگی پر جہاں ہم رہتے ہیں جھلکتی ہے بلکہ ہمارے فن، فن تعمیر اور موسیقی میں بھی اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔

یہ گروپ اس معنی میں مختلف ہوتے ہیں کہ گروپ کے افعال نہایت واضح اور رسمی طور پر بیان ہوتے ہیں۔ رسمی گروپ کے افعال جیسا کہ دفتری تنظیم کے معاملے میں ہے، واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ گروپ کے ممبران کے ذریعہ انجام دیے جانے والے کرداروں کو واضح انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ساخت کی بنیاد پر رسمی اور غیر رسمی گروپ مختلف ہوتے ہیں۔ رسمی گروپوں کی تشکیل کچھ مخصوص ضوابط یا قوانین اور ممبران کے متعین کرداروں پر مبنی ہے۔ اس کے معیار کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو نظم و ترتیب قائم رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یونیورسٹی رسمی گروپ کی ایک مثال ہے جب کہ دوسری طرف غیر رسمی گروپوں کی تشکیل ضوابط یا قوانین پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ ممبران کے درمیان قریبی تعلق ہوتا ہے۔

درونی گروپ اور بیرونی

سرگرمی
7.2

گروپ میں فرق

قریب ماضی میں اسکولوں کے درمیان ہوئے مقابلے کے بارے میں سوچئے۔ اپنے دوستوں سے کہیے کہ آپ کے اسکول اور اس کے طلباء، دوسرے اسکول اور اس اسکول کے ساتھیوں اور دیگر اسکول کے طلباء کے بارے میں پوچھیے اور برتاؤ کی فہرست بنا لیں۔ فرق کا مشاہدہ کیجئے اور کلاس میں بحث کیجئے۔ کیا آپ کچھ یکسانیت بھی دیکھتے ہیں اگر ہاں تو ان پر بحث بھی کیجئے۔

درونی گروپ اور بیرونی گروپ

جیسے افراد اس لحاظ سے کہ ان میں اور دوسروں میں کیا یکسانیت اور فرق ہے، دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ کرتے ہیں اسی طرح افراد جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس کا موازنہ کرتے ہیں جس کے وہ ممبر نہیں ہیں۔ اصطلاح 'درونی گروپ' کسی کے اپنے گروپ کی دلالت کرتی ہے اور بیرونی گروپ سے مراد دوسرا گروپ ہے۔ درونی گروپ کے ممبران کے لیے 'ہم' کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ لفظ 'وہ' کا استعمال بیرونی گروپ کے ممبروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ الفاظ وہ اور ہم کا استعمال کرنے کے ذریعہ کوئی بھی لوگوں کی زمرہ بندی 'اپنے' یا 'غیر' کے طور پر کر سکتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ درونی گروپ میں افراد عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں اور موافقانہ سوچتے ہیں اور ان میں مطلوبہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ بیرونی گروپ کے ممبران مختلف سمجھے جاتے ہیں اور درونی گروپ کے ممبران کی نسبت منفی طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ درون گروپ اور بیرون گروپ کا ادراک ہماری سماجی زندگی کو متاثر کرتا

انفرادی برتاؤ پر گروپ کا اثر

ہم نے دیکھا کہ گروپ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ وہ افراد کے برتاؤ پر اثر انداز ہونے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس اثر کی نوعیت کیا ہے؟ دوسروں کی موجودگی ہماری کارکردگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ ہم دو صورت حال پر بحث کریں گے۔ (i) دوسروں کی موجودگی میں فرد واحد کا تنہا سرگرمی انجام دے رہا ہے (سماجی تسہیل)۔ (ii) دوسروں کی موجودگی جو ایک بڑے گروپ کے جز کے طور پر دوسروں کے ساتھ سرگرمی انجام دے رہیں (سماجی آوارگی)۔ چونکہ سماجی تسہیل کے بارے میں باب 6 میں بات کی گئی ہے لہذا ہم اس سیکشن

میں سماجی آوارگی (Social loafing) کے بارے میں بحث کریں گے۔

سماجی آوارگی

ممبروں کو موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ راحت محسوس کریں اور بے دھڑک کام کرنے لگیں۔ کیپٹن اور اس کے ساتھیوں نے بہت سے تجربات میں اس مظہر کا مظاہرہ کیا جنہوں نے طلباء کے ایک گروپ سے جتنا زیادہ ممکن تھا تالی بجانے یا پرشور آواز میں خوشی منانے کو کہا کیونکہ وہ (تجربہ کرنے والے) یہ جاننا چاہتے تھے کہ سماجی ماحول میں لوگ کتنا شور مچاتے ہیں۔ گروپ کے سائز میں ترمیم کی گئی، افراد یا تو اکیلے یا دو، چار اور چھ کے گروپ میں تھے۔ مطالعہ کے نتائج سے پتہ چلا کہ اگرچہ شور کی مقدار بڑھ گئی لیکن ہر شریک کے ذریعہ پیدا کی جانے والی شور کی مقدار گھٹ گئی۔ دوسرے لفظوں میں ہر شریک نے گروپ سائز کے بڑھنے پر کم کوشش کی۔ سماجی آوارگی لمبی واقع ہوتی ہے۔ اس کی توضیح درج ذیل ہے:

- گروپ کے ممبران مجموعی طور پر انجام دیے جانے والے کام کے لیے کم جوابدہی محسوس کرتے ہیں اور اس لیے کوشش کم کرتے ہیں۔
- ممبران کی تحریک کم ہوتی ہے کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اشتراک کو انفرادی بنیاد پر نہیں دیکھا جائے گا۔
- گروپ کی کارکردگی کا موازنہ دوسرے گروپوں سے نہیں کیا جائے گا۔
- ممبروں کے درمیان غیر موزوں ارتباط ہوتا ہے (یا ارتباط بالکل نہیں ہوتا)

سماجی تسہیل کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی موجودگی سے جوش پیدا ہوتا ہے اور افراد اگر کچھ حل کرنے میں پہلے ہی بہتر ہیں تو ان کی کارکردگی کو بڑھانے میں متحرک ہو سکتی ہے۔ یہ بہتری اس وقت واقع ہوتی ہے جب کسی فرد کی کوششوں کو انفرادی طور پر آزما یا جائے۔ کیا ہوا اگر فرد کی کوششوں کو گروپ میں شریک کیا جائے تاکہ اس طرح مجموعی طور پر گروپ کی کارکردگی پر نظر رکھ سکیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا واقع ہوتا ہے؟ یہ پایا گیا ہے کہ افراد گروپ میں کم محنت کرتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ جب اکیلے وہی کام انجام دے رہے ہوں اس سے اس مظہر کا پتہ چلتا ہے جسے ”سماجی آوارگی“ کہا جاتا ہے۔ جب اجتماعی عمل انجام دیا جا رہا ہو تب فرد کی کوششوں میں کمی سماجی آوارگی کہلاتی ہے۔ اجتماعی عمل وہ ہے جس میں دیگر گروپ ممبران کے ساتھ کسی کے ماحصل کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے کام کی ایک مثال رسہ کشی کا کھیل ہے۔ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس ٹیم کے ہر ممبر کی قوت کے بارے میں الگ الگ اندازہ لگایا جائے ایسی صورت حال میں گروپ کے

اقل گروہی مثالی خاکہ تجربات

بکس
7.2

تافیل اور اس کے دوستوں کو درونی گروپ برتناؤ کے لیے اقل شرائط جاننے میں دلچسپی تھی۔ اقل گروہی نمونے کو اس سوال کے لیے فروغ دیا گیا۔ برطانوی اسکول کے طلباء نے دو فنکاروں و کینڈسکی اور پال کلی کے ذریعہ بنائی گئی پینٹنگ کے لیے اپنی ترجیح کا اظہار کیا۔ بچوں کو بتایا گیا کہ یہ فیصلہ سازی کا ایک تجربہ تھا۔ وہ ان گروپوں کو جانتے تھے جن میں ان کی گروپ بندی کی گئی تھی (کینڈسکی گروپ اور کلی گروپ) دیگر گروہی ممبروں کی کوڈ اعداد کا استعمال کرتے ہوئے چھپی ہوئی تھی۔ بچوں نے اس کے لیے صرف وصولی کرنے والوں کو کوڈ نمبروں اور گروپ ممبر شپ کا استعمال کرتے ہوئے رقم تقسیم کی۔

نمونہ جانی تقسیم ڈھانچہ

درونی گروپ ممبر — 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

بیرونی گروپ ممبر — 1 3 5 7 9 16 13 15 17 19 21 23 25

آپ متفق ہوں گے کہ ان گروپوں کی تخلیق جن کی ماضی میں یا مستقبل کی کوئی تاریخ نہیں تھی ڈھیلی ڈھالی کسوٹی کی بنیاد پر کی گئی تھی (دو فنکاروں کے ذریعہ پینٹنگ کے لیے ترجیح) تاہم نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں نے اپنے خود کے گروپ کو ترجیح دی۔

● ممبروں کے لیے ایک ہی گروپ سے تعلق رکھنا اہم نہیں ہے۔ یہ صرف افراد کا ایک مجموعہ ہے۔

سماجی آوارگی کو درج ذیل طریقوں سے کم کیا جاسکتا ہے۔

- ہر فرد کے ذریعہ کی جانے والی کوششوں کو قابل شناخت بنانا۔
- محنت سے کام کرنے کے دباؤ کو بڑھانا (کامیابی کے ساتھ کام انجام دینے کے لیے گروپ ممبروں کو پابند بنانا۔
- نمایاں اہمیت یا کام کی قدر کو بڑھانا۔
- لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ان کا انفرادی اشتراک اہم ہے۔
- گروپ سے وابستگی کو مضبوط کرنا جس سے کامیاب گروہی نتائج کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہے۔

گروہی تقطیب

ہم سبھی جانتے ہیں کہ گروپوں کے ذریعہ نہ کہ افراد کے ذریعہ اہم فیصلے لیے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے گاؤں میں اسکول قائم کر لیا جائے یا نہیں یہ فیصلہ لینا ہے۔ اس طرح کے فیصلے گروہی فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب گروپ فیصلے لیتے ہیں تب کبھی کبھی یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں گروہی سوچ نہ حاوی ہو جائے (باکس 7.1)۔ گروپ ایک اور رجحان ظاہر کرتا ہے جسے گروہی تقطیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ گروپ ممکن ہے اکیلے افراد کے مقابلے زیادہ سخت فیصلے لیں۔ مان لیجیے ایک ملازم ہے جو رشوت لیتے ہوئے یا کسی غیر اخلاقی عمل میں پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ وہ اسے بری کر سکتے ہیں یا غیر اخلاقی عمل بھی ساتھ ساتھ کیے جانے کے سبب سزا دینے کے بجائے خدمات سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ گروپ میں جو کچھ بھی ابتدائی موقف ہوں گروپ کے مباحثے کے نتیجے میں یہ موقف اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ گروپ کے ابتدائی موقف میں تقویت گروپ کے تفاعل اور بحث کا نتیجہ ہے جسے گروہی تقطیب کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی خطرناک رد عمل ثابت ہوتا ہے کیونکہ گروپ سخت موقف اختیار کر سکتا ہے یعنی نہایت کمزور

فیصلے کے مقابلے انتہائی سخت فیصلہ اختیار کر سکتا ہے۔ گروہی تقطیب کیوں واقع ہوتی ہے۔ ایک مثال لیں، آیا سزائے موت ہونی چاہیے، فرض کیجیے آپ وحشیانہ جرائم کے لیے سزائے موت کے حامی ہیں۔ کیا ہوگا اگر آپ ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس امر پر تبادلہ خیال اور بحث کر رہے ہوں؟ اس تفاعل کے بعد آپ کے خیالات اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ یہ حتمی رائے درج ذیل تین اسباب کی بنا پر قائم ہوتی ہیں۔

- ہم خیال لوگوں کا ساتھ ملنے پر آپ ممکن ہے اپنے زاویہ نظر کے حق میں نئے نئے دلائل سنیں۔ اس سے آپ سزائے موت کے زیادہ قائل ہو جائیں گے۔
- جب آپ دوسروں کو بھی سزائے موت کے حق میں دیکھ رہے ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس خیال کو عوامی طور پر جواز حاصل ہو رہا ہے اور یہ بینڈ ویگن اثر کی ایک قسم ہے۔
- جب آپ دریافت کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایک جیسے خیالات ہیں تب ممکن ہے آپ انہیں درون گروپ کے طور پر باور کرتے ہیں۔ اس سے موافقت دکھانا شروع کرتے ہیں اور نتیجتاً آپ کے خیال کو مزید تقویت ملتی ہے۔

تقطیب کی جانچ

سرگرمی
7.3

اپنے استاد کے ذریعہ تیار کیا گیا ایک مختصر 5 نکاتی رویہ پیمانہ کلاس کو دیجیے جو سزائے موت کے تئیں رویوں کی جانچ کے سلسلے میں ہو۔ کلاس کو ان کے جوابات کی بنیاد پر دو گروپوں میں تقسیم کیجیے یعنی ایک وہ جو سزائے موت کے حامی ہیں دوسرے وہ جو سزائے موت کے مخالف ہیں اب ان گروپوں کو دو مختلف کمروں میں بٹھا دیجیے اور ان سے کہیے کہ وہ حالیہ معاملے جسمیں عدالت کے ذریعہ موت کی سزا دی گئی ہو، پر بحث کریں۔ دیکھیے کہ دونوں گروپوں میں بحث کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ بحث کے بعد گروپ کے ممبروں کے تئیں رویہ پیمانہ کو از سر نو منظم کیجیے۔ جائزہ لیجیے کہ آیا دونوں گروپوں میں گروہی مباحثے کے نتیجے میں ان کے ابتدائی موقف کے مقابلے موجودہ موقف کچھ سخت ہوا ہے۔

تعمیل، تعمیل اور فرماں برداری

سماجی اثرات گروپ اور افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اثرات ہم کو ایک مخصوص سمت میں ہمارے برتاؤ کو تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اصطلاح، سماجی اثر سے مراد وہ عمل کاری ہے جس کے ذریعہ ہمارے رویوں اور برتاؤں پر دیگر لوگوں کی حقیقی یا خیالی موجودگی سے اثر پڑتا ہے۔ پورے دن آپ کو متعدد صورت حال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں دوسرے آپ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی سوچ پر جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں آپ کے والدین، اساتذہ، دوست، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کمرشیل سماجی اثر کی کوئی نہ کوئی قسم تخلیق کرتے ہیں۔ سماجی اثر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بعض صورت حال میں ہم پر سماجی اثر بہت مضبوط ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہم چیزوں کو کم کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ورنہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ دیگر مواقع پر ہم دوسروں کے اثرات کے خلاف بھی جاتے ہیں بلکہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے خود کے زاویہ نظر اپنائیں۔ اس سیکشن میں تین اہم گروہی اثرات کی عمل کاری کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تین عمل ہیں مطابقت، تعمیل اور فرماں برداری۔

اپنے اسکول میں درج ذیل صورت حال کا تصور کیجیے۔ آپ کے کچھ دوست حال میں اعلان کیے گئے ضابطے (یعنی اسکول میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی) کے خلاف احتجاج کے خط کے ساتھ آپ کے پاس آئے۔ ذاتی طور پر آپ مانتے ہیں کہ یہ اصول یا ضابطہ معقول ہے اور اسے لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ خط پر دستخط نہیں کریں گے تو آپ کئی دوستوں سے محروم ہو جائیں گے اور طلباء میں اتحاد نہ رکھنے پر بدنام ہو جائیں گے۔ ایسی صورت حال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں آپ کی عمر کے زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ آپ اس خط پر دستخط کرنے پر متفق ہو جائیں گے تو یہ سماجی اثر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جسے مطابقت (Conforming) کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے گروپ معیار یعنی دیگر گروپ ممبران کی توقع کے مطابق برتاؤ

کرنا، افراد جو مطابقت نہیں پیدا کرتے (انہیں منحرف یا غیر مطابقت پسندی کہا جاتا ہے) ان لوگوں کے مقابلے زیادہ توجہ دیتے ہیں کیل مین نے سماجی اثرات کی تین شکلوں تعمیل، شناخت اور درون کار کا ذکر کیا ہے۔ تعمیل میں بیرونی شرائط ہوتی ہیں جو فرد کو ان اثرات کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے جو دوسروں کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ تعمیل سے مراد کسی کے ذریعہ کی گئی درخواست کے جواب میں مخصوص انداز میں برتاؤ کرنا ہے۔ اس طرح اوپر بیان کی گئی مثال میں آپ یہ سوچ کر دستخط کر سکتے ہیں کہ آپ اس درخواست کو قبول کر چکے ہیں نہ کہ اس لیے کہ آپ دیگر طلباء سے متفق ہیں بلکہ اس لیے کہ کسی اہم ممبر کے ذریعہ اس طرح کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ تعمیل کا معاملہ ہوگا جسے بیرونی یا عوامی مطابقت پسندی کہا جاتا ہے۔ تعمیل بغیر کسی معیار کے واقع ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک کمیونٹی گروپ کا کوئی ممبر صاف ستھرے ماحول کے سلسلے میں آپ سے آپ کی موٹر سائیکل پر ایک اسٹیکر لگوانا چاہتا ہے جس پر لکھا ہوا ہو 'پلاسٹک کے تھیلے کو نہ کہیں'، آپ ایسا کرنے کے لیے راضی ہیں اس لیے نہیں کہ یہ گروپ کا نمونہ ہے، نہ ہی اس لیے کہ آپ ذاتی طور پر پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی لگائے جانے کے حق میں ہیں بلکہ اس لیے کہ اپنی موٹر سائیکل پر اس طرح کے اسٹیکر لگائے جانے میں کوئی نقصان یا مسئلہ نہیں دیکھتے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بے ضرر درخواست (اور نسبتاً پر معنی) "نہ" کہنے کے بجائے 'ہاں' کہنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ Kelman کے مطابق شناخت اثر اندازی کے اس عمل کی دلالت کرتی ہے جو موافقت کی جستجو یا شناخت کی جستجو پر مبنی ہوتی ہے۔ جب کہ دوسری طرف اندرون کاری وہ عمل ہے جو معلومات کی جستجو پر مبنی ہوتی ہے۔

برتاؤ کی ایک اور شکل فرماں برداری یا اطاعت ہے۔ فرماں برداری کی نمایاں خصوصیت ایک ایسا برتاؤ ہے جو کسی شخص کی اطاعت نافذ کرنے کے اختیار کے جوابی عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ درج بالا مثال میں آپ خط پر بلا تامل فوری دستخط کر سکتے ہیں اگر کوئی سینئر ٹیچر یا اسٹوڈینٹ لیڈر آپ سے ایسا کرنے کے لیے کہے۔ ایسی صورت حال میں آپ لازماً گروپ کے معیار یا قدر کی پابندی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک ہدایت یا حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ کسی

مختار شخص کی موجودگی سے یہ برتاؤ موافقت پسندی سے مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کلاس روم میں اس وقت اونچی اور تیز آواز میں بات کرنا بند کر سکتے ہیں جب آپ سے کوئی استاذ خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن اگر آپ کا ہم جماعت آپ سے یہی بات کہتا ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔

ہم یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ موافقت پسندی، تعمیل اور فرماں برداری کے درمیان کچھ مماثلت ہے لیکن کچھ فرق بھی ہے۔ ان تینوں سے فرد کے برتاؤ پر دوسروں کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ فرماں برداری سماجی اثر اندازی کی سب سے زیادہ راست اور نمایاں شکل ہے جب کہ تعمیل، فرماں برداری کی نسبت کم راست ہے کیونکہ کسی نے آپ سے درخواست کی اور اس طرح آپ تعمیل کرتے ہیں (آپ موافقت پسند ہیں کیونکہ آپ معیار یا قدر سے منحرف نہیں ہونا چاہتے)

موافقت پسندی یا تقلید

لوگ گروپ کے معیار کی پابندی کیوں کرتے ہیں، جب کہ صرف انہیں سزا کے طور پر گروپ کی ناراضگی یا ”جدا“ سمجھے جانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں؟ کیوں کہ لوگ مطابقت پسند ہوتے ہیں تب بھی جب کہ وہ جانتے ہیں کہ معیار خود مطلوبہ نہیں ہے؟

ایسا لگتا ہے کہ معیار کی پیروی کرنے کا میلان فطری ہے اور اس میں کسی خاص توقع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاہم، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میلان کیوں فطری یا اضطراری ہوتا ہے۔ اولاً معیار برتاؤ کے غیر تحریری اور غیر رسمی اصولوں کے ایک مجموعے کی نمائندگی کرتا ہے جس سے گروپ کے ممبران کو کسی مخصوص صورت حال میں ان سے کیا توقع کی جاتی ہے، اس کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ اس سے پوری صورت حال واضح ہو جاتی ہے فرد اور گروپ دونوں کو زیادہ ہموار طور پر عمل کرنے کی آسانی ہوتی ہے۔ دوسرے بالعموم لوگوں کو اگر دوسروں سے ”مختلف یا جدا“ سمجھا جائے تو وہ اس میں پریشانی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح برتاؤ کرنا جو متوقع برتاؤ کی شکل سے مختلف

ہو، کا نتیجہ دوسروں کی ناپسندیدگی یا ناگواری کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہ سماجی سزا کی ایک شکل ہے۔ یہ کچھ ویسی ہی شکل ہے جس سے لوگ اکثر سوچ سوچ کر ڈرتے ہیں۔ مگر وہ سوال یاد کریں جو اکثر ہم پوچھتے ہیں: لوگ (تب) کیا کریں گے؟ اس طرح معیار کی پابندی کرنا، پسندیدگی یا ناگواری سے بچنے اور دوسروں سے توثیق حاصل کرنے کا سیدھا طریقہ ہے۔ تیسرے، معیار کو اکثریت کے خیالات اور عقائد کی عکاسی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ اکثریت زیادہ ممکن ہے صحیح ہونہ کہ غلط۔ اس کی ایک مثال ٹیلی ویژن پر اکثر دکھایا جانے والا معلومات عامہ کا پروگرام ہے۔ جب مقابلے میں حصہ لینے والا کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دے پاتا تو وہ حاضرین کی رائے لینے کا انتخاب کر سکتا ہے، وہ شخص اکثر اسی رائے کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے جو حاضرین نے پیش کی ہو۔ اسی استدلال کے ذریعہ لوگ معیار کے ساتھ مطابقت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اکثریت صحیح ہی ہوگی۔

مطابقت پسندی پر اولین تجربات شیرف اور ریش نے انجام دیے تھے۔ انہوں نے بعض ایسی صورت کو سمجھایا جو مطابقت پسندی کی حد کو متعین کرتی ہیں اور ان طریقوں کو بھی بتایا جو گروپوں میں مطابقت پسندی کے مطالعے کے لیے اپنائے جاسکتے ہیں۔ جن تجربات کا مظاہرہ کیا انہیں شیرف ”گمان حرکت اثر“ (Auto kinetic effect) اور ایش تکنیک (باکس 7.3 اور باکس 7.4) کہا جاتا ہے۔

مطابقت پسندی پر ان تجربات کے نتائج سے کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں؟ اس کا اصل سبق گروپ کے ممبروں میں مطابقت پسندی کا درجہ ہے جس کا تعین بہت سے عوامل کے ذریعہ کیا جاتا ہے جو صورت حال کے لحاظ سے مخصوص ہوتے ہیں۔

مطابقت پسندی کے فیصلہ کن عناصر

(i) گروپ کی جسامت: بڑے گروپ کی نسبت چھوٹے گروپ میں مطابقت پسندی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیوں واقع ہوتا ہے؟ اس کا جواب آسان ہے

گمان حرکت اثر

شیرف نے یہ مظاہرہ کرنے کے لیے کہ کس طرح گروپ اپنے معیارات کا تعین کرتے ہیں اور ممبران ان کے معیارات کے لحاظ سے اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔

تجربات کے ایک سلسلہ کا اہتمام کیا، شرکا کو ایک تاریک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور روشنی کے ایک نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کو کہا گیا۔ اس روشنی کے نقطے پر نظر مرکوز رکھنے کے بعد ہر شخص سے کہا گیا کہ اس دوری کا اندازہ لگائے جس سے وہ گزرا تھا۔ اس طرح کا فیصلہ متعدد آزمائشوں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ ہر آزمائش کے بعد گروپ کو اوسط دوری کے بارے میں معلومات فراہم کیں جسے ممبران کے ذریعہ اخذ کیا گیا تھا۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ بعد کی آزمائشوں میں افراد نے اپنے فیصلوں میں اس طرح ترمیم کی کہ وہ گروپ اوسط کے زیادہ مماثل ہو گئے۔ اس تجربے کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ روشنی کا نقطہ اصلاً اپنی جگہ سے ہٹا ہی نہیں تھا۔ روشنی کو متحرک ہونے کے طور پر صرف شرکا کے ذریعہ دیکھا گیا تھا (اس لیے اس اثر گمان حرکت اثر کہا گیا تاہم تجربہ کرنے والوں کی ہدایت کے جواب میں شرکا نے نہ صرف متحرک ہونے والی روشنی کی دوری کا فیصلہ کیا بلکہ اس دوری کے لیے معیار بھی تخلیق کیا۔ خود غور کیجیے کہ شرکا کو تبدیلی کی نوعیت سے متعلق کس طرح کی معلومات نہیں دی گئی تھیں، اگر دی گئیں تو آزمائشوں کی بنیاد پر ان فیصلوں کے بارے میں لکھیے۔

ہوگا۔ کس صورت حال میں ممکنہ طور پر زیادہ مطابقت پسندی ہوگی پہلے میں جہاں صحیح یا غلط جیسا کچھ معاملہ ہو یا دوسرے میں جہاں جواب میں صحیح یا غلط درست ہونے کے کسی جواب کے بغیر وسیع طور پر جوابات مختلف ہو سکتے ہیں؟ آپ کو صحیح ہونے کا اندازہ لگانا پڑ سکتا ہے، مطابقت پسندی دوسری صورت حال میں غالباً کم ہوگی۔

(iv) برتاؤ کا عوامی یا نجی اظہار: ایش تکنیک میں گروپ ممبران سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوابات کھلے طور پر دیں۔ یعنی سبھی ممبران جانتے ہیں کہ کیا جواب دیا جاتا ہے۔ تاہم، دیگر صورت حال بھی ہو سکتی ہیں (مثال کے طور پر خفیہ رائے شماری کے ذریعہ رائے دیں) جس میں ممبران کا برتاؤ نجی نوعیت کا ہوتا ہے (دوسروں کو واقفیت نہیں) کم عوامی اظہار کی نسبت نجی اظہار میں کم تقلید یا مطابقت پسندی دیکھی جاتی ہے۔

(v) شخصیت: اوپر بیان کی گئی صورت سے ظاہر ہے کہ بیان کی گئی تقلید کے درجے کو متعین کرنے میں صورت حال کی خصوصیات کتنی اہم ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ افراد تقلیدی یا مطابقت پسند شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔

کیونکہ چھوٹے گروپ میں ایک منحرف ممبر (وہ جو تقلید نہیں کرتا) نظر میں آجاتا ہے۔ تاہم ایک بڑے گروپ میں، اگر زیادہ تر ممبروں میں مضبوط مطابقت پسندی یا تقلید پائی جاتی ہو تو اس سے اکثریت قوی ہوتی ہے اور اس لیے معیار بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے معاملے میں اقلیتی ممبران زیادہ امکانی طور پر تقلید کریں گے کیونکہ گروپ کا دباؤ زیادہ مضبوط ہوگا

(ii) اقلیت کی تعداد: ایش تجربے کا معاملہ لیجیے (باکس 7.4 دیکھیں) مان لیجیے فرد کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کے کچھ دیر کے بعد کوئی شریک ہے جو فرد کے جواب سے اتفاق کرتا ہے۔ کیا فرد اب غالباً زیادہ تقلید کرے گا یا شاید کم تقلید کرے گا؟ جب غیر مقلد یا انحراف کرنے والی اقلیت کی تعداد بڑھتی ہے تو ممکنہ مطابقت پسندی گھٹ جاتی ہے۔ درحقیقت گروپ میں غیر مقلدین یا غیر مطابقت پسندوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔

(iii) کام کی نوعیت: ایش کے تجربے میں مفوضہ کام میں مطلوبہ جواب کی توثیق کی جاسکتی ہے اور صحیح یا غلط ہو سکتا ہے۔ بالفرض کام میں کچھ موضوع کے بارے میں رائے دینا شامل ہے۔ ایسے معاملے میں کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں

گروہی دباؤ اور تقلید: الیش تجربات

الیش نے جائزہ لیا کہ جب گروپ کے ایک ممبر کو ایک مخصوص انداز میں برتاؤ کرنے یا مخصوص رائے دینے کے لیے باقی گروپ کا دباؤ ہوتا ہے تو تقلید کتنی ہوگی۔ سات افراد کے ایک گروپ نے ایک تجربے میں شرکت کی اس بصیرت آزمائی میں درحقیقت صرف ایک اصل فرد زیر تجربہ تھا باقی چھ شرکا تجربہ کرنے والے کے ساتھی یا اتحادی جیسا کہ سماجی نفسیات میں انھیں کہا جاتا ہے، ان اتحادیوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ مخصوص جواب دیں۔ بے شک یہ بات اصل فرد کو نہیں معلوم تھی۔ سبھی شرکا کو ایک عمودی خط (معیاری خط) دکھایا گیا جس کا موازنہ مختلف لمبائیوں B, A اور C (تقابلی خطوط) کے تین عمودی خطوط کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ شرکا کو یہ بیان کرنا تھا کہ کون سے تقابلی خطوط B, A یا C معیاری خط کے مساوی ہیں۔



جب تجربہ شروع ہوا ہر شریک کا رنے باری باری اپنے جواب کا اعلان کیا پہلے پانچ افراد نے غلط جواب دیا (کیونکہ انھیں ایسا کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہر دور میں اصل فرد کی باری آخر میں آئی لہذا اصل فرد کے سامنے 5 افراد کے ذریعہ غلط جواب دینے کا تجربہ تھا۔ آخری شخص (جو اتحادی بھی تھا) نے بھی وہی غلط جواب دیا جو پہلے پانچ افراد جیسا ہی غلط جواب تھا۔ حتیٰ کہ اگر اصل فرد نے محسوس بھی کیا کہ جوابات صحیح نہیں ہیں پھر بھی ایک معیار اس کے سامنے پیش ہوا۔ ایسی بارہ آزمائشیں تھیں۔ کیا اصل فرد نے اکثریت کے جواب کی تقلید کی، یا اس نے اپنی خود کی رائے پیش کی؟

یہ مشاہدہ کیا گیا کہ 67 فی صد افراد نے تقلید کی اور اکثریت والوں نے وہی غلط جواب دیا۔ یاد کیجئے کہ یہ صورت حال تھی جس میں جوابات کھلے طور پر دیے گئے تھے۔

مطابقت پسندی یا تقلید معلوماتی اثر انگیزی یعنی وہ اثر جو حقیقت کی نسبت معلوم واقعات کو قبول کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، واقع ہوتی ہے۔ اس قسم کی عقلی تقلید دوسروں کے عمل سے دنیا کے بارے میں سیکھنے کے طور پر باور کی جاسکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کا مشاہدہ کرنے کے ذریعہ سیکھتے ہیں جو متعدد سماجی روایتوں کے بارے میں معلومات کے بہتر ماخذ ہوتے ہیں۔ گروپ کے نئے ممبران گروپ کی روایتوں کو دیگر گروپ ممبران کے افعال کا مشاہدہ کرنے کے ذریعہ سیکھتے ہیں۔ تقلید اقداری اثر کے سبب بھی واقع ہوتی ہے،

ایسے افراد میں دوسرے کیا کہتے ہیں یا زیادہ تر صورت حال میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے مطابق اپنے برتاؤ میں تبدیلی کا میلان پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، ایسے بھی افراد ہیں جو خود مختار ہوتے ہیں اور کسی مخصوص صورت حال میں کس طرح کا برتاؤ کیا جائے۔ اس کا فیصلہ کرنے میں معیار کی طرف نہیں دیکھتے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ نہایت ذہین لوگ، وہ جو اپنے آپ میں پراعتماد ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ وقف رہتے ہیں اور جن کے اندر زبردست خود پسندی ہوتی ہے، وہ غالباً کم مطابقت پسند ہوتے ہیں۔

یعنی یہ اثر انگیز فرد کی دوسروں کے ذریعہ پذیرائی یا سراہے جانے کی خواہش پر مبنی ہوتی ہے ایسے معاملوں میں لوگ اس لیے تقلید کرتے ہیں کیونکہ گروپ سے انحراف سے مسترد کیے جانے یا کم سے کم عدم قبولیت کی شکل میں برآمد ہو سکتی ہے جو سزا کی ایک طرح کی صورت ہے۔ عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ گروپ کی اکثریت قطعی فیصلے تعین کرتی ہے بلکہ بعض صورتوں میں اقلیت زیادہ ذی اثر ہوتی ہے۔ ایسا تب واقع ہوتا ہے جب اقلیت ایک مضبوط اور مصالحت کو قبول نہ کرنے والا موقف اختیار کرے اور اس بنا پر اکثریت کے زاویہ نگاہ کی درستی پر شکوک پیدا کرے۔ اس سے گروپ میں تصادم پیدا ہوتا ہے۔ (دیکھیں باکس 7.4)

تعمیل یا بجا آوری

یہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ تعویل کا سیدھا سا مطلب دیگر فرد یا گروپ کی درخواست (حتیٰ کہ معیار کی غیر موجودگی میں بھی) کے جواب میں برتاؤ کرنا ہے۔ تعویل کی ایک اچھی مثال برتاؤ کی وہ قسم ہے جب ایک فروخت کرنے والا ہمارے دروازے پر آتا ہے۔ اکثر یہ فرد کچھ سامان کے ساتھ آتا ہے جسے ہم واقعتاً خریدنا نہیں چاہتے۔ تاہم کبھی کبھی ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ فروخت کرنے والا کچھ منٹ کے لیے ہم سے بات کرتا ہے اور اس بات چیت کے ختم ہونے پر ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں جسے وہ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ آخر لوگ کیوں تعویل کرتے ہیں؟

کئی صورتوں میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس صورت حال میں تعویل کرنا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ خوش خلق ہے اور دوسرے فریق کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دیگر صورتوں میں دیگر عوامل بھی کام کرتے ہیں۔ جب کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا فرد تعویل کرے تو اس سلسلے میں درج ذیل تکنیکیں بھی کارآمد پائی گئی ہیں۔

• دی فوٹ ان دی ڈور تکنیک: فرد ایک معمولی درخواست کے ذریعہ شروعات کرتا ہے جسے شاید ہی کوئی دوسرا فرد منع کر سکے۔ جب ایک بار کوئی اور فرد درخواست عمل میں لے آتا ہے تو اس کے بعد جب کہ

ایک بڑی درخواست کی تعویل پہلے ہی کر چکا ہے دوسری درخواست کو منع کرنے میں تامل محسوس کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی گروپ کی طرف سے آسکتا ہے اور ہمیں یہ کہتے ہوئے تھخہ دیتا ہے (کون ایسی چیز مفت میں دیتا ہے) کہ یہ تشہیر کے لیے ہے۔ اس کے بعد جلد ہی اسی گروپ کا دوسرا ممبر پھر آسکتا ہے اور گروپ کی بنائی ہوئی کسی دوسری شے کو ہم سے خریدنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔

• دی ڈیڈ لائن تکنیک: اس تکنیک میں ایک فرق آخری تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس تاریخ تک ایک مخصوص شے یا پیشکش دستیاب ہوگی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جلدی کریں اور اس شاذ و نادر موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی خریداری کریں۔ یہ زیادہ ممکن ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مقررہ وقت نہ ہوتا تو آپ وہ چیز نہ خریدتے۔

• دی ڈور ان دی فیس تکنیک: اس تکنیک میں آپ بڑی درخواست کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور جب اسے مسترد کر دیا جاتا ہے تب ایسی کسی چھوٹی چیز کے لیے درخواست کی جاتی ہے جو اصلاً مطلوب ہوتی ہے۔ اسے عام طور پر فرد کے ذریعہ منظور کر لیا جاتا ہے۔

فرماں برداری

جب کسی با اختیار فرد جیسے والدین، ٹیچر، قائدین یا پولس کی ہدایت یا حکم ماننے کے تئیں ظاہر ہوتی ہے تب اس برتاؤ کو فرماں برداری یا بجا آوری کہتے ہیں۔ کیوں لوگ فرماں برداری دکھاتے ہیں۔ اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اکثر ایسا اس لیے ہے کہ اگر ہم حکم عدولی کرتے ہیں تو کچھ سزا کا خوف رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ با اختیار فرد کے حکم کی تعویل ضرور کی جانی چاہیے، با اختیار فرد کے پاس احکامات کو نافذ کرنے کے مؤثر ذرائع ہوتے ہیں ملگرام نے ایک تجربے کا اہتمام یہ دکھانے کے لیے کیا کہ افراد ان لوگوں کے احکامات کی تعویل کرتے ہیں جو اجنبی ہوتے ہیں۔ تجربہ کرنے والے نے زیر مطالعہ جواب دہندگان کو مطلع کیا جا سکے۔ تجربہ جوڑوں پر انجام دیا گیا۔ ہر جوڑے میں ایک فرد ”آموزگار“ تھا

روزمرہ زندگی میں فرماں برداری کا مظاہرہ کرنا۔

کیا آپ حکام یا با اختیار فرد کے تئیں ملگرام کے مطالعات کے نتائج میں یقین کرتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے کہ آیا اطاعت واقع ہوئی یا نہیں۔ اپنے استاد سے کسی چھوٹی کلاس میں جانے کی اجازت لیجئے۔ وہاں جائے اور طلبا سے کچھ کہیے اس طرح کی درخواستوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ طلبا سے کہیے کہ دیگر طلبا کے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ بدل لیں۔

طلبا سے کہیے کہ ایک مینڈک کی طرح ٹرٹر کریں۔

طلبا سے کہیے کہ جے ہند کہیں۔

طلبا سے کہیے کہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں۔

(اس میں آزادی کے ساتھ اپنے خیالات بھی شامل کر سکتے ہیں۔)

آپ نے کیا دیکھا؟ کیا طلبا نے آپ کی اطاعت کی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان پر واضح کیجیے کہ آپ سینئر کی اطاعت کیوں کریں؟ اس کا مطالعہ کر کے واپس آئے اور بحث کیجیے کہ آپ نے اپنے ٹیچر اور ہم جماعتوں کے ساتھ کیا دیکھا۔

تعاون اور مسابقت

مختلف سیاق و سباق میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ زیادہ تر سماجی صورت حال میں برتاؤ کی خصوصیت کا تعین یا تو 'تعاون' یا 'مسابقت' کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جب گروپ کسی مشترک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں تب ہم اسے تعاون کے طور پر جانتے ہیں۔ تعاون کی صورت حال میں صلہ گروہی صلہ ہوتا ہے نہ کہ انفرادی صلہ۔ تاہم جب ممبران اپنے خود کے مفادات کو پیش کرتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو حقیقت آفریں بنانے کے لیے کام کرتے ہیں تو نتیجتاً مسابقت کا امکان ہو سکتا ہے۔ سماجی گروپوں کے مسابقتی اور تعاونی دونوں مقاصد ہو سکتے ہیں۔ مسابقتی مقاصد کو اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنا مقصد

جن کا کام الفاظ کا یاد کرنا تھا۔ دوسرا شریک 'معلم' تھا جس کا کام ان الفاظ کو تیز پڑھنا تھا اور آموز کار کو ضرب پہنچانے یا جھکادینے کے ذریعے مزادینا تھا۔ آموز کار پہلے سے مرتب ہدایات کے لحاظ سے غلطیاں کر سکتا تھا۔ معلم سے کہا گیا کہ وہ ہر بار ضرب کی قوت بڑھائیں۔ درحقیقت کوئی ضرب نہیں پہنچائی گئی تھی۔ ہدایات کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ معلم کو ایک گولو کی حالت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیا اسے ضرب تب بھی رکھنا چاہیے تھا جب کہ ان کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا؟ تجربہ کرنے والے معلم کو متحرک کرنا جاری رکھا۔ کل میں 65 فی صد نے پوری طرح فرماں برداری دکھائی۔ کچھ شرکانے بہر حال احتجاج کیا اور یہ کہا کہ یہ سیشن ختم ہونا چاہیے۔ ملگرام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام لوگ بھی کسی با اختیار فرد کا حکم ملنے پر معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔

لوگ کیوں اس وقت بھی اطاعت کرتے ہیں جب کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برتاؤ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس کی کئی وجوہات معلوم کی ہیں۔ ان میں سے کچھ اسباب درج ذیل ہیں۔

• لوگ حکم کی تعمیل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود کے افعال کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ با اختیار فرد کے احکامات نافذ کر رہے ہیں۔

• با اختیار فرد عام طور پر حیثیت کی علامت رکھتے ہیں (جیسے یونیفارم، پہچان یا خطاب) جس سے لوگوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔

• حکام کے ذریعہ دھیرے دھیرے کم تر سطح سے اونچی سطح تک اختیار بڑھتا جاتا ہے اور ابتدائی فرماں برداری مطیع کو حکم کا پابند بناتی ہے۔ جب ایک بار آپ چھوٹے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں تب دھیرے دھیرے با اختیار فرد کے لیے حکم کی پابندی کرنے میں شدت آتی جاتی ہے اور فرد بڑے احکامات کی تعمیل شروع کرتا ہے۔

• اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعات اتنی تیزی سے واقع ہو رہے ہوتے ہیں (مثال کے لیے فساد کی صورت حال) کہ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ اوپر سے ملے احکامات کی تعمیل کرے۔

شیرف کے موسم گرما کے کیمپ کے تجربات: درون گروہی تشکیل سے بین گروہی مسابقت تک اور بالآخر بین گروہی تعاون

شیرف نے 11-12 سال کی عمر کے بچوں پر تجربات کے سلسلے کا اہتمام کیا جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ لڑکے موسم گرما کے ایک کیمپ (پڑاؤ) میں شامل ہو رہے تھے۔ کچھ محققین بھی کیمپ میں تھے جن کے بارے میں لڑکوں کو نہیں معلوم تھا۔ جنھوں نے ان کے (لڑکوں کے) برتاؤ کا جائزہ لیا۔ تجربہ چار مراحل یعنی دوستی کی تشکیل، گروپ کی تشکیل، بین گروہی مسابقت اور بین گروہی تعاون پر مشتمل تھا۔

- دوستی کی تشکیل: جب کیمپ میں لڑکے پہنچے تو انھوں نے اپنا ابتدائی وقت ساتھ ساتھ گزارا۔ وہ ایک دوسرے سے کھل مل گئے، کھیل اور دیگر سرگرمیوں کے لیے اپنے دوستوں کا انتخاب کیا۔
- درون گروہی تشکیل: تجربہ کرنے والے لڑکوں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا۔ لڑکے الگ الگ رہنے والے دونوں گروپوں سے متعلق تھے گروپ کے اندر ممبران نے وابستگی بڑھانے کے لیے تعاونی منصوبوں پر کام کیا۔ گروپوں کو الگ نام دیے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے خود کے معیارات کو فروغ دیا۔
- بین گروہی مسابقت: دونوں گروپوں کو متعدد مسابقتی صورت حال میں رکھا گیا۔ مقابلوں کا اہتمام کیا گیا جس سے گروپوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت پیدا ہوئی؛ یہ اس قدر بڑھی کہ گروپ نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ درون گروہی وابستگی اور وفاداری مضبوط ہوتی گئی۔
- بین گروہی تعاون: بین گروہی مسابقت کے ذریعہ تخلیق کی گئی عداوت کو کم کرنے کے لیے محققین نے ایک مسئلہ تخلیق کیا جس سے دونوں گروپ متاثر ہوئے، دونوں گروپ انھیں حل کرنا چاہتے تھے۔ اہم تر مقاصد صرف گروپوں کے درمیان تعاون کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے تھے۔ دونوں گروپوں کو پانی کی فراہمی میں رکاوٹ پڑی تھی۔ دونوں گروپوں کے ممبران نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی۔ یوں بین گروہی تعاون کے مرحلے کے ذریعہ عداوت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ اہم تر مقصد یعنی وہ مقصد جس میں ذاتی مقاصد تھی تھے، کے فروغ کی صورت میں برآمد ہوا۔

یہ تحقیق اہم ہے جیسا کہ اس سے ظاہر ہوا کہ معاندانہ اور مخالفانہ برتاؤ گروہی صورت حال کے ذریعہ تخلیق کیا جاسکتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گروپوں کے درمیان عداوت کو اہم تر مقاصد پر مرکوز کرنے کے ذریعہ کم کیا جاسکتا ہے، جو اہم ہے اور دونوں گروپوں کے لیے فائدہ مند ہے۔

میٹر کی دوڑ میں چھ لوگوں میں صرف ایک جیت سکتا ہے۔ کامیابی انفرادی کارکردگی پر منحصر ہے۔ ڈنڈا دوڑ (Relay Race) میں جیت ٹیم کے سبھی ممبران کی اجتماعی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہے۔ Deutsch نے گروپوں کے اندر تعاون اور مسابقت کی تفتیش کی۔ کالج کے طلباء کو پانچ افراد کا ایک گروپ تفویض کیا اور ان سے پہیلیوں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک

تجہ حاصل کرتا ہے اگر دوسرے اپنے مقاصد نہ حاصل کریں۔ مثال کے لیے آپ مقابلے میں صرف تجہ اول آسکتے ہیں جب کوئی دوسرا اس سطح تک انجام نہیں دے سکتا۔ جب کہ دوسری طرف تعاونی مقصد یہ ہوتا ہے جس میں ہر فرد صرف تجہ مقصد حاصل کر سکتا ہے جب گروپ کے دیگر ممبران بھی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ ہم اسے کھلاڑی کی ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں۔ ایک سو

اگر A اور B دونوں مسابقت کرتے ہیں تو دونوں دو دو نمبر حاصل کرتے ہیں۔ آپ کن نتائج کی توقع کرتے ہیں؟ آپ کیوں ایسی توقع کرتے ہیں؟ اسباب بتائیے۔

	کھلاڑی A	
	تعاون	مسابقت
مسابقت	3	5
تعاون	0	2
کھلاڑی B	3	0
	5	2

شکل 7.2 تعاون بنام مسابقت۔

تعاون اور مسابقت کے فیصلہ کن عناصر

کون سے عوامل اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا لوگ تعاون کریں گے یا مسابقت کریں گے؟ کچھ اہم درج ذیل ہیں۔

(i) صلہ ساخت: ماہرین نفسیات مانتے ہیں کہ آیا لوگ تعاون کریں گے یا مسابقت کریں گے، یہ صلہ ساخت پر منحصر ہوگا۔ تعاونی صلہ ساخت وہ ہے جس میں معاون بین انحصار ہوتا ہے۔ ہر ایک صلہ کا خواہش مند ہے اور صلہ تبھی ممکن ہے جب سبھی اس میں اشتراک کریں۔ ایک مسابقتی صلہ ساخت وہ ہے جس میں کوئی فرد صلہ تبھی حاصل کر سکتا اگر کوئی دوسرا نہ حاصل کر سکے۔

(ii) بین شخصی رابطہ: جب کوئی اچھی بین شخصی ترسیل یا رابطہ ہو تب تعاون ممکنہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ترسیل سے بین عمل اور مباحثے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر گروپ کے ممبران ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔

(iii) باہم دگری: باہم دگری کا مطلب ہے لوگ وہ واپس کرنے کے پابند ہوتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ ابتدائی تعاون کے ذریعہ مزید تعاون کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے۔ مسابقت سے مزید مسابقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر

گروپ مجموعی کو تعاونی گروپ کے طور پر ترجیح دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی کارکردگی انجام دینے کے لیے اجتماعی طور پر صلہ دیا جائے گا نتائج سے پتہ چلا کہ تعاونی گروپوں میں بہت زیادہ ارتباط تھا، ایک دوسرے کے خیالات کی پذیرائی تھی اور مسابقتی گروپ کی نسبت ان میں زیادہ دوستانہ ماحول تھا۔ تعاونی گروپ کے ممبران کا خاص مقصد گروپ کی کارکردگی کو زیادہ بہتر بنا کر پیش کرنا تھا۔ اگرچہ کسی گروپ کے اندر افراد کے درمیان مسابقت کا نتیجہ تصادم اور بے آہنگی کی صورت میں نکل سکتا ہے جب کہ گروپوں کے درمیان مسابقت گروپ سے وابستگی اور اتحاد عمل بڑھ سکتا ہے۔

قیدیوں کی گولگول حالت کا کھیل

یہ دو افراد کا کھیل ہے جس میں دونوں فریقوں کو تعاون یا مسابقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر دونوں جیت یا ہار سکتے ہیں، اسے اکثر تعاون یا مسابقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھیل ایک دلچسپ حکایت پر مبنی ہے۔ دو مشتبہ افراد پر الگ الگ سراغ رساں کے ذریعہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایک معمولی جرم کے لیے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ان سراغ رساں کے پاس کافی ثبوت تھے۔ الگ الگ دونوں مجرموں کو اقبال جرم کا ایک موقع دیا گیا۔ اگر ایک اقبال جرم کرتا ہے اور دوسرا نہیں تو اس کو جو اقبال جرم کرتا ہے اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور اس کے اعتراف جرم کو دوسرے کے سنجیدہ جرم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگر دونوں اعتراف جرم کرتے ہیں تو دونوں کو ہلکی سزا دی جائے گی اگر کوئی اعتراف جرم نہیں کرتا تو ہر ایک کو ہلکی سزا دی جائے گی۔ اس کھیل کے سیکڑوں تجربات یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ جب دو فریق شامل ہوتے ہیں تو تعاون کرنے اور مسابقت کرنے دونوں کے محرکات کے درمیان ایک کشاکش جاری رہتی ہے۔ (شکل 7.2 دیکھیں)

مثال کے طور پر، دو کھلاڑی ہیں: A اور B اگر دونوں تعاون کرتے ہیں تو دونوں کو تین تین نمبر ملتے ہیں۔ اگر کھلاڑی A مسابقت کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اسے 5 نمبر ملتے ہیں اور B کو صفر نمبر ملتا ہے۔ اگر B مسابقت کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اسے 5 نمبر ملتا ہے اور A کو صفر نمبر حاصل کرتا ہے۔

کوئی مدد کرتا ہے تو آپ کا بھی اس شخص کی مدد کرنے کو جی چاہتا ہے؛ جب کہ دوسری طرف اگر کوئی مدد کرنے سے اس وقت انکار کر دیتا ہے جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ بھی اس شخص کی مدد نہیں کرنا چاہیں گے۔

سماجی شناخت

کیا کبھی آپ نے یہ سوال خود سے پوچھا ہے۔ ”میں کون ہوں؟“ اس سوال کا کیا جواب تھا۔ شاید آپ کا جواب تھا کہ آپ سخت محنتی، بے فکر، لاپرواہی لڑکی یا لڑکے ہیں۔ یہ جواب آپ کی سماجی شناخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ کسی کی خود کی تعریف ہے۔ اس خود کی تعریف میں ذاتی اوصاف یعنی سخت محنت، بے فکری یا وہ صفات جن میں آپ دوسروں جیسے لڑکی یا لڑکے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، دونوں شامل ہیں اگرچہ ہماری شناخت کے بعض پہلو کا تعین جسمانی خصوصیات کے ذریعہ کیا جاتا ہے، تاہم سماج میں دوسروں کے ساتھ ہمارے بین عمل کے نتائج کے طور پر ہم دیگر پہلو بھی حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خود کو ایک منفرد شخصیت سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی ہم خود کو گروپ کے ممبر کی حیثیت دیتے ہیں۔ دونوں ہی مساوی طور پر خود کا معقول اظہار ہے ایک منفرد شخص کے طور پر خود خیالات سے ماخوذ ہماری ذاتی شناختیں اور ممبران کے طور پر سمجھی گئی گروپوں سے ماخوذ سماجی شناختیں دونوں ہی ہمارے لیے اہم ہیں۔ ذاتی سطح پر یا سماجی سطح پر جو ہم خود کی تعریف کرتے ہیں دونوں لحاظ سے یکساں ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے تجربے سے محسوس کیا ہوگا کہ سماجی گروپوں کے ذریعہ شناخت کی آپ کے خود کے تصور کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب ہندوستان کوئی کرکٹ میچ جیتتا ہے؟ آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ ایسا اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی سماجی شناخت ایک ہندوستانی کے طور پر اس طرح ممبر شپ پر مبنی ہے۔ سماجی شناخت ہمیں مقام عطا کرتی ہے یعنی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک بڑے سماجی سیاق میں کیا اور کہاں ہیں۔ آپ کی اپنے اسکول کے طالب علم کی سماجی شناخت ہے جو ایک بار اپنے اسکول کے طالب علم کی شناخت حاصل

کر لی، آپ اپنے اسکول کی اہم قدروں کی درون کاری کرتے ہیں اور ان قدروں کو اپنالیتے ہیں۔ آپ اپنے اسکول کے اصول عمل کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ سماجی شناخت ممبران کو ان کے اور ان کی سماجی دنیا کے بارے میں اقدار، عقائد اور مقاصد فراہم کرتی ہے۔ جب ایک بار آپ اسکول کے اقدار کی درونیت کرتے ہیں تو اس سے آپ کے رویے اور برتاؤ میں ارتباط اور نظم میں مدد ملتی ہے۔ آپ اپنے اسکول کے لیے سخت محنت کرتے ہیں تاکہ اسے شہر یا ریاست کا بہتر سے بہتر اسکول بنایا جاسکے۔ جب آپ اپنے خود کے گروپ کے ساتھ مضبوط شناخت کو فروغ دیتے ہیں، درون گروپ اور بیرون گروپ کے طور پر زمرہ بندی نمایاں ہو جاتی ہے۔ گروپ جس کے ساتھ آپ کی خود کی شناخت قائم ہو جاتی ہے، وہ درون گروپ بن جاتا ہے اور دوسرے بیرون گروپ بن جاتے ہیں۔ اس خود کے گروپ اور بیرون گروپ کی زمرہ بندی کے منفی پہلو جو ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ کہ بیرونی گروپ کی نسبت درون گروپ کے تئیں زیادہ موافق طور پر اس کی درجہ بندی کے ذریعہ بے جا ترجیح دینے لگتے ہیں۔

بین گروپ تصادم: فطرت اور اسباب

تصادم وہ عمل ہے جس میں یا تو فرد یا گروپ کے ذریعہ باور کیا جاتا ہے کہ دوسرے (فرد یا گروپ) کے حریفانہ مفادات ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے متناقض ہونے کی کوشش کرتے ہیں ”ہم“ اور ”دیگر“ (”وہ“ بھی کہا جاسکتا ہے) ہونے کا احساس شدید ہوتا ہے۔ دونوں فریقوں کے ذریعہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دوسرے صرف خود کے مفادات کا تحفظ کریں گے؛ ان (دوسرے فریق) سے مفادات کا تحفظ اس لیے کیا جائے گا۔ نہ صرف ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے پر طاقت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گروپ افراد کے مقابلے زیادہ جارح ہوتے ہیں۔ اس سے اکثر تصادم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبھی تصادم یا کشاکش خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے انسان داؤ پر لگتا ہے جنگوں میں فتح اور شکست

جا چکا ہے کہ وہ اور ہم کا احساس جانبدارانہ ادراک پیدا کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب لوگ گروپوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے خود اکیلے کے مقابلے تو زیادہ مسابقتی اور زیادہ جارح ہوتے ہیں۔ گروپوں میں کامیاب وسائل، مادی وسائل، جیسے علاقہ، زر اور سماجی وسائل جیسے احترام اور خود پسندی دونوں کے معاملے میں زیادہ مسابقت ہوتی ہے۔

تصادم کی ایک اور وجہ ادراک کی بے انصافی ہے۔ معدلت سے مراد فرد کے اشتراک کے تئیں تناسب میں صلے کی تقسیم ہے اگر

$$\frac{\text{آپ کا صلہ}}{\text{آپ کا اشتراک}} = \frac{\text{آپ کے دوست کا صلہ}}{\text{آپ کے دوست کا اشتراک}}$$

لیکن اگر آپ کا اشتراک زیادہ ہے اور پاتے کم ہیں تو آپ ممکن ہے مشتعل ہوں اور استحصال کا احساس ہو۔

گروپوں کے درمیان تصادم سماجی اور قونی عمل کا ریوں کے تئیں ہیج یا قوت محرکہ فراہم کرتا ہے۔ یہ عمل ہر فریق کے موقف میں سختی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ گروہی تقطیب کی صورت میں برآمد ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہم خیال جماعتوں کے اتحادی تشکیل کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ اس بنا پر دونوں جماعتوں میں خوف و ہراس بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور جانبدارانہ توضیح اور نسبت وہی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح تصادم یا کشاکش بڑھ جاتی ہے۔ موجودہ سماج مختلف درون گروہی تصادم سے خائف ہے۔ ذات، طبقہ، مذہب، خطہ اور زبان سے متعلق تصادم کچھ مثالیں ہیں۔ گارڈنر نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان In the minds of Men تھا۔ زیادہ تر کشاکش لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد رو بہ عمل آتی ہے۔ اس طرح کے تصادم کی وضاحت ساختی، گروہی اور انفرادی سطحوں پر کی جاسکتی ہے۔ ساختی شرائط میں غربت، معاشی اور سماجی طبقہ بندی، عدم مساوات، محدود سیاسی اور سماجی مواقع وغیرہ شامل ہیں۔ گروہی سطح کے عوامل

دونوں ہوتی ہے لیکن جنگ میں انسان کی قربانی ان سب سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ سماج میں مختلف قسم کے کشاکش عام طور پر دیکھے جاتے ہیں جو دونوں فریق کے لیے مہنگے تو ثابت ہوتے ہیں سماج کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ گروہی تصادم کے لیے بعض اہم اسباب درج ذیل ہیں۔

• ایک اہم سبب دونوں فریقوں کے ذریعہ ترسیل یا باہمی رابطے کی کمی یا ناقص ترسیل ہے۔ اس قسم کی ترسیل سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے یعنی اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے لہذا نتیجے کے طور پر تصادم پیدا ہوتا ہے۔

• درون گروپ تصادم کا ایک اور سبب: نسبی محرومی ہے۔ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب کسی گروپ کے ممبران دوسرے گروپ کے ممبران کے ساتھ خود کا موازنہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مطلوبہ چیزیں نہیں ہیں جو دوسرے گروپ کے پاس ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دوسرے گروپوں کے مقابل زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ اس سے محرومی اور بے اطمینانی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کشاکش کا محرک بن سکتا ہے۔

• تصادم کی دوسری وجہ ایک فریق کا یہ ماننا کہ وہ دوسروں کی نسبت بہتر ہے اور اسے رو بہ عمل لایا جانا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہو پاتا تب دونوں فریق ایک دوسرے کو بھلا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھی اکثر بڑھادینے کا میلان دکھائی دیتا ہے اس بنا پر تصادم بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہر ممبر اپنے اپنے گروپ کے معیارات کا احترام کرانا چاہتا ہے۔

• یہ احساس کہ دیگر گروہ میرے گروہ کے معیارات کا لحاظ نہیں کرتا اور اصلاً ان معیارات کی بدخواہی کے ارادے سے خلاف ورزی کرتے ہیں۔

• ماضی میں کچھ نقصان پہنچائے جانے کے سبب انتقام لینے کی خواہش تصادم کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔

• زیادہ تر کشاکش کی بنیاد جانبدارانہ ادراک ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا

جاسکتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے متعدد حکمت عملی کی تجویز پیش کی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں۔

اہم تر مقاصد کا تعارف: شہرے کے مطالعہ تعاون اور مسابقت کے سیکشن میں جس کا ذکر کیا جا چکا ہے، سے ظاہر ہے کہ اہم تر مقاصد کے تعارف کے ذریعہ درون گروہی تصادم کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ایک اہم تر مقصد دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لہذا دونوں گروپ آپس میں تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

ادراک کو بدلنا: ترغیب، تعلیمی اور ذرائع ابلاغ کی اپیل کے ذریعہ ادراک اور رد عمل کو بدلنے اور سماجی گروپوں کی مختلف طور پر تصویر کشی شروعات سے ہی ہر ایک کو دوسروں کے لیے ہم احساس کو فروغ دینا چاہیے۔

بین گروہی رابطوں کو فروغ دینا: تصادم کو گروپوں میں رابطے بڑھانے کے ذریعہ بھی کم کیا جاسکتا ہے۔ اسے تصادم میں شامل گروپوں کے ذریعہ کمیونٹی پروجیکٹوں اور واقعات کے ذریعہ غیر جانبدارانہ بنیاد پر انجام دیا جاسکتا ہے۔ ان کو ایک ساتھ لانے کا تصور یہ ہے کہ اس طرح وہ ایک دوسرے کے موقف کی ستائش کر سکیں۔ تاکہ یہ رابطے کامیاب ہوں، اس کے لیے انھیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ تعاون برقرار رکھنا چاہیے۔

گروہی حدود کو از سر نو متعین کرنا: ایک اور تکنیک جس کی تجویز کچھ ماہرین نفسیات نے دی ہے وہ یہ کہ گروہی حدود کا تعین نئے سرے سے کیا جائے۔ اسے شرائط مقرر کرنے کے ذریعہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ گروپوں کی حدود کا کہاں تعین کیا جائے، جس سے گروپ خود کو ایک عام گروپ سے متعلق ہونا سمجھنے لگیں۔

گفت و شنید: تصادم کو بات چیت اور تیسرے فریق کی مداخلت کے ذریعہ بھی حل کیا جاسکتا ہے۔ جنگجو گروپ باہمی طور پر قابل قبول حل کو دریافت کرنے کی کوشش کے ذریعہ تصادم کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس میں باہمی سمجھ بوجھ اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات چیت سے مراد باہم دگری ترسیل ہے اس

پر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی شناخت، وسائل پر گروپوں کے درمیان حقیقی تصادم اور گروپوں میں غیر مساوی اقتداری رشتہ تصادم کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر عقائد، تعصبی رویے اور شخصیت کی خصوصیات اہم فیصلہ کن عناصر ہوتی ہیں۔ یہ پایا گیا ہے کہ انفرادی سطح پر تشدد کے جاری رہنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے عمل جن کی ابتدا میں ممکن ہے کوئی خاص اہمیت نہیں ہو جیسے دوسرے گروپ کو برا بھلا کہنا، نفسیاتی تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے مزید تخریبی عمل ممکن ہو سکتا ہے۔

Deutsch نے بین گروہی تصادم کے درج ذیل نتائج کی شناخت کی ہے۔

- گروپوں کے درمیان باہمی رابطہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گروپ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے اس کے سبب ترسیل یا رابطے میں وقفہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔
- گروپ اپنے اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے برتاؤ کو منصفانہ اور دوسرے کے برتاؤ کو غیر منصفانہ باور کرنا شروع کرتے ہیں۔
- ہر فریق اپنے خود کے اقتدار اور جواز کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر تصادم بڑھ جاتا ہے اور کچھ مخصوص امور سے زیادہ بڑے مسائل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔
- ایک بار جب تصادم شروع ہوتا ہے، کئی دوسرے عوامل تصادم بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، درون گروپ رائے عامہ سخت ہو جاتی ہے بیرونی گروپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر گروپ اپنی ہتک وغیرہ کا اسی صورت میں بدلہ چکانے لگتا ہے اور دیگر فریق بھی کسی نہ کسی کی طرف سے جانبداری برتنے لگتے ہیں۔ اس سے مزید تصادم بڑھ جاتا ہے۔

کشاکش رفع کرنے کی حکمت عملی

تصادم یا کشاکش کم کیا جاتا ہے اگر ہم ان کے اسباب کے بارے میں جان لیں۔ وہ عمل جو تصادم بڑھا سکتا ہے اس کا رخ اسے کم کرنے کی طرف پلٹا

تقسیم کرنے کے ذریعہ کم کیا جاسکتا ہے۔ انصاف پر تحقیق سے انصاف کے متعدد اصولوں کی شناخت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ مساوات (ضرورت کی بنیاد پر مختص کرنا) ضرورت (ضرورت کی بنیاد پر تعین کرنا) اور معدلت (ممبروں کے اشتراک کی بنیاد پر مختص کرنا)۔

دیگر گروپوں کے معیارات کا احترام: کثرت سماج جیسے ہندوستان میں ضروری ہے کہ مختلف سماجی اور نسلی گروپوں کے مضبوط معیارات کا لحاظ کیا جائے اور اس کے تئیں حساس رہا جائے۔ یہ غور کیا گیا ہے کہ مختلف گروپوں کے درمیان متعدد فرقہ وارانہ فساد اسی بے حسی کے سبب واقع ہوئے ہیں۔

اس صورت حال میں جس میں تصادم واقع ہوتا ہے، کسی معاہدے پر پہنچا جاسکتا ہے کبھی کبھی بات چیت کے ذریعہ تصادم کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں تیسرے فریق کی صلح صفائی اور ثالثی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلح صفائی کرانے والا یا ثالث متعلقہ امور پر ان کے مباحثے پر توجہ مرکوز کر کے دونوں فریقین کی مدد کرتا ہے اور رضا کارانہ معاہدے پر پہنچتا ہے۔ ثالثی میں تیسرے فریق کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کی بحث سننے کے بعد فیصلہ کرے۔

ساختی حل: تصادم کو منصفانہ بنیاد پر اصولوں کے لحاظ سے سماجی وسائل کو از سر نو

کلیدی اصطلاحات

ثالثی، وابستگی، مسابقت، تعمیل، تصادم یا کشاکش، مطابقت پسندی یا تقلید، تعاون، مقصد کی حصولیابی، گروپ، گروپ تشکیل، اجتماعی فکر، شناخت، درون گروپ، باہمی انحصار، بین گروپ، بات چیت، معیارات، فرماں برداری، بیرونی گروپ، قربت، کردار، سماجی نسل، سماجی اثر، سماجی مزاحمت، سماجی آوارہ گردی، حیثیت، ساخت، اہم تر مقاصد۔

- گروپ لوگوں کے دیگر مجموعے سے مختلف ہوتے ہیں۔ باہمی بین انحصاری، کردار، حیثیت اور توقعات گروپوں کی اہم خصوصیات ہیں۔
- گروپ دو یا زیادہ افراد کی منظم تنظیم ہیں۔
- لوگ گروپوں میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ وہ تحفظ، حیثیت، خود پسندی، نفسیاتی اور سماجی ضرورتوں کی تسکین، مقصد کی حصولیابی اور علم و معلومات فراہم کرتے ہیں۔
- قربت، یکسانیت اور مشترکہ محرکات اور مقاصد گروپ کی تشکیل میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔
- عام طور پر گروپ عمل مفید نتائج پیدا کرتے ہیں تاہم کبھی کبھی پیوستہ اور متجانس گروپوں میں اجتماعی فکر کا مظہر واقع ہو سکتا ہے۔
- گروپ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدائی اور ثانوی، رسمی اور غیر رسمی، درون گروپ اور بیرون گروپ۔
- گروپ انفرادی برتاؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سماجی تسہیل اور سماجی آوارہ گردی گروپوں کی دو اہم اثر انگیزی ہے۔
- مطابقت پسندی، تقلید، تعمیل اور فرماں برداری یا اطاعت سماجی اثر کی تین اہم شکلیں ہیں۔
- تقلید سماجی اثر کی نہایت بالواسطہ شکل ہے، فرماں برداری انتہائی راست شکل اور تعمیل بجا آوری ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔
- سماجی صورت حال میں لوگ تعاون کرنے یا مسابقت کرنے کے ذریعہ ایک دوسرے سے رو بہ رو ہوتے ہیں۔
- کسی کی خودی تعریف کہ وہ کون ہے سماجی شناخت کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔
- گروہی تصادم سبھی سماجوں میں واقع ہوئے ہیں۔
- گروہی تصادم کو کم کیا جاسکتا ہے اگر ہم ایسے تصادم کے اسباب کو سمجھ لیں۔

خلاصہ

- 1- رسمی اور غیر رسمی گروپوں اور درون گروپوں اور بیرون گروپوں کا موازنہ کریں۔
- 2- کیا آپ کسی مخصوص گروپ کے ممبر ہیں؟ بحث کیجیے کہ وہ کون سے محرکات تھے جس سے آپ گروپ میں شامل ہوئے؟
- 3- ٹکمین کا مرحلہ ماڈل گروپوں کی تشکیل کو سمجھنے میں آپ کی کیسے مدد کرتا ہے؟
- 4- گروپ ہمارے برتاؤ پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟
- 5- گروپوں میں سماجی آوارگی کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اسکول میں سماجی آوارگی کے کن ہی دو واقعات کے بارے میں سوچیے۔ آپ اس پر کس طرح قابو پائیں گے؟
- 6- آپ اپنے برتاؤ میں کس طرح کی مطابقت پسندی ظاہر کرتے ہیں؟ مطابقت پسندی کے کیا فیصلہ کن عناصر ہیں؟
- 7- لوگ تب بھی کیوں اطاعت کرتے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ ان کے برتاؤ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔
- 8- تعاون کے فوائد کیا ہیں؟
- 9- کسی کی شناخت کیسے وضع ہوتی ہے؟
- 10- درون گروہی تصادم کے بعض اسباب کیا ہیں؟ کسی بین الاقوامی تصادم کے بارے میں سوچیے۔ انسانی قیمت پر اس تصادم پر روشنی ڈالیے۔

- 1- وہ جو طلب نہیں کر سکتا وہ کبھی مول بھاؤ یا سودا نہیں کر سکتا پچھلے ایک مہینے کے اخبارات جمع کیجیے۔ مختلف مول تول کی فہرست بنائیے جو دوکانداروں نے پیش کیا تھا۔ ان کے ذریعہ تعمیل کی کیا تکنیکیں استعمال کی گئی تھیں؟ اپنے دوستوں سے پوچھیے کہ یہ سود کتنے لوگوں کے لیے باعث کشش ہوئے تھے۔
- 2- مختلف تصادم کی ایک فہرست بنائیے جو اسکول میں مختلف ہاؤس میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ تصادم کس طرح حل ہوئے تھے۔
- 3- کرکٹ میں کسی ٹیٹ سیریز کی شناخت کیجیے جس میں حال ہی میں ہندوستان کھیلا ہو۔ اس وقت کے اخبارات جمع کیجیے۔ ان تبصرات اور تنقیدوں کا جائزہ لیجیے جو ہندوستانی اور حریف تہرہ نگاروں نے ظاہر کیے تھے۔ کیا آپ تبصروں کے درمیان کوئی فرق دیکھتے ہیں؟
- 4- تصور کیجیے کہ آپ کوچیوں کے لیے کام کرنے والے این۔ جی۔ او۔ (غیر سرکاری تنظیم) کی مدد کے لیے رقم اکٹھی کرنی ہے۔ سماجی اثر کی کون سی تکنیک آپ استعمال کریں گے؟ کسی دو تکنیک پر آزمائش کیجیے اور فرق دیکھیے۔



http://www.mapnp.org/library/grp_skill/theory/theory.htm

<http://www.socialpsychology.org/social.htm>

<http://www.stanleymilgram.com/main.htm>

<http://www.psychclassics.yorku.ca/sheriff/chap1.htm>



تعلیمی اشارات

- 1- گروپوں کی فطرت اور تشکیل کے موضوع میں طلباء کو حقیقی زندگی میں گروپوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں اس پر زور دیا جائے کہ انہیں گروپوں کا انتخاب کرنے میں محتاط رہنا چاہیے اساتذہ سے کچھ طلباء پوچھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف گروپوں کے ممبر کیسے بن سکتے ہیں اور وہ ان گروپوں کی ممبر شپ کیوں حاصل کریں گے۔
- 2- سماجی آوارگی کی وضاحت کے لیے کلاس میں طلباء سے گروپوں میں کچھ سرگرمیوں کو انجام دینے اور اس کے لیے انجام دی گئی سرگرمیوں میں ان کے اشتراک کے بارے میں پوچھنے کے ذریعہ طلباء سے سوال کر کے سادہ تجربات انجام دیے جاسکتے ہیں۔ طلباء کے لیے آموزشی تجربہ سماجی آوارگی سے احتراز کے طور پر ہونا چاہیے۔
- 3- تعاون اور مسابقت کے موضوع میں طلباء کو تعاون اور مسابقت دونوں کے فائدے بتانے چاہئیں۔ انہیں اندازہ قدر کا اہل ہونا چاہیے کہ سماج میں تعاون ایک بہتر حکمت عملی ہے۔ حقیقی زندگی کے کچھ معاملوں جہاں تعاونی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، ان پر بحث کی جاسکتی ہے۔
- 4- طلباء کو اندازہ قدر کا اہل ہونا چاہیے کہ شناختیں اہم ہیں اور کس طرح ہماری شناختیں سماجی برتاؤ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
- 5- بین گروہی تصادم کے سیکشن میں تصادم فی نفسہ کے بجائے تصادم کو رفع کرنے کی حکمت عملی پر زور دیا جانا چاہیے۔